

www.KitaboSunnat.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مسئلہ اطفال

قرآن و حدیث اور اقوالِ علمائے سلف کی روشنی میں

آزاد

جناب مولانا مفتی محمد کاشف صاحب عظمیٰ

استاذ دارالعلوم دیوبند

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون

مسئلہ تقلید

(قرآن و حدیث اور اقوال علمائے سلف کی روشنی میں)

(از)

جناب مولانا مفتی محمد راشد صاحب عظمیٰ

استاذ دارالعلوم دیوبند



نصیر مکتب پوٹو حضرت نظام الدین بنی دہلی

تقلید کا وجوب اور اس کی ضرورت

اس امر سے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہو سکتا کہ دین و شریعت کی حفاظت انتہائی ضروری اور واجب ہے۔ کیونکہ دین کی حفاظت کے بغیر انسان نہ تو دین پر چل سکتا ہے اور نہ ہی ان کامیابیوں کو حاصل کر سکتا ہے جن کی طرف دین لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں بار بار دین اور امور دین کی حفاظت کی تاکید و تلقین آئی ہے۔ دین کے وہ معاملات جن کا صراحت اور وضاحت کے ساتھ کتاب و سنت میں حکم آیا ہے ان کو واجب بالذات کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض وہ واجبات ہوتے ہیں کہ کتاب و سنت سے واجب قرار دے ہوئے اعمال پر عمل کرنا ان کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ چونکہ وہ واجب کی ادائیگی کا مقدمہ اور ذریعہ بنتے ہیں اور یہ شرعی ضابطہ ہے کہ واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے اور یہ ضابطہ مسلم شریف کی اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔

عن عقبۃ بن عامر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول

من علم الرمی ثم ترکہ فلیس منا او قد عصی (رواہ مسلم) (۱)

ترجمہ :- عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے سنا ہے کہ جو

شخص تیر اندازی سیکھ کر چھوڑ دے وہ ہم سے خارج ہے یا یہ فرمایا کہ وہ گنہگار ہے۔

ف :- ظاہر ہے کہ تیر اندازی کوئی عبادت مقصودہ نہیں ہے، مگر چونکہ بوقت ضرورت ایک

واجب یعنی اعلائے کلمۃ اللہ کا مقدمہ ہے اس لیے اس کے ترک کرنے پر وعید فرمائی جو

اس کے واجب ہونے کی علامت ہے تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ واجب کا مقدمہ

بھی واجب ہوتا ہے۔ شریعت میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں مثلاً قرآن کریم اور احادیث شریفہ کو جمع کر کے لکھنے کی کتاب و سنت میں کہیں بھی تاکید نہیں آئی ہے۔ ان کے محفوظ رکھنے ضائع ہونے سے بچانے کی زبردست تاکید آئی ہے اور اگر اور مشاہدہ سے معلوم ہے کتابت کے بغیر ان کا محفوظ رہنا عادتاً ممکن نہیں، اس لیے قرآن و حدیث کی کتابت کو ضروری سمجھا جائے گا چنانچہ اس کے واجب اور ضروری ہونے پر پوری امت کا دلالتاً اجماع ہے اس قسم کے واجب کو واجب بالغیر کہتے ہیں۔

تقلید شخصی کا واجب ہونا بھی اسی قبیل سے کیونکہ دین کی حفاظت جو ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے وہ خیر القرون کے بعد تقلید شخصی کے بغیر ممکن نہیں ہے تقلید نہ کرنے سے دین کے بے شمار امور بلکہ پورے دین میں زبردست خلل واقع ہوتا ہے اس حقیقت کو وضاحت کے ساتھ یوں سمجھئے کہ مسائل فرعیہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جن کا ثبوت ایسی آیات کریمہ یا احادیث صحیحہ سے صراحتاً ہوتا ہے جن میں بظاہر نہ تو کوئی تعارض ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کئی معانی اور وجوہ کا احتمال رکھتی ہیں بلکہ مسائل پر ان کی دلالت قطعی اور ہتمی ہوئی ہے۔ ایسے مسائل کو منصوصہ غیر متعارضہ کہتے ہیں اس طرح کے مسائل میں کسی بھی مجتہد کیلئے اجتہاد کرنا جائز نہیں کیونکہ اجتہاد کی شرائط میں سے ہے کہ وہ حکم صراحتاً ثابت نہ ہو۔ اور جب ان مسائل میں اجتہاد نہیں تو ان مسائل میں کسی کی تقلید بھی نہیں ہے۔

دوسری قسم ان مسائل کی ہے۔ جن کا ثبوت وضاحت کے ساتھ کسی آیت اور حدیث میں نہیں ملتا۔ یا اگر ثبوت پایا جاتا ہے تو وہ آیت اور حدیث اور بھی معانی اور وجوہ کا احتمال رکھتی ہے۔ یا کسی دوسری آیت یا حدیث سے بظاہر متعارض معلوم ہوتی ہے۔ ایسے مسائل کو مسائل اجتہادیہ کہتے ہیں اور ان کا صحیح حکم مجتہد کے اجتہاد ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ وہ شخص جو اپنے اندر اجتہاد کی قوت نہیں رکھتا۔ اگر ان مسائل میں رائے لہنی کرنے لگے تو نفسانی خواہشات کے پھندوں میں الجھ کر رہ جائے گا۔ اس لیے ضروری ہوا کہ امت کے بعض افراد کو ایسی قوت استنباط و اجتہاد عطا کی جائے جس کے ذریعے وہ نصوص کتاب و سنت میں غور و فکر کر کے مسائل غیر منصوصہ کے احکام حاصل کر کے ہمام

امت کے سامنے پیش کر دے تاکہ ان کیلئے دین پر عمل کا راستہ بے خطر اور آسان ہو جائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے وہ حضرات جو ہمہ وقت دربار نبوی کے حاضر باش تھے۔ انہیں اس قوتِ اجتہاد سے کام لینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان کیلئے جناب رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی ہی ہر مسئلہ کا حل اور ہر سوال کا کافی و شافی جواب تھی۔

اے لقائے تو جواب ہر سوال
مشکل از تو حل شود بے قیل و قال

اس لئے وہ ہر بات حضور ﷺ سے براہ راست معلوم کر سکتے تھے، مگر وہ حضرات جو اس دور مبارک میں دربار نبوی سے باہر قیام پذیر تھے یا وہ حضرات جو بعد میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے یا وہ حضرات جو بعد میں پیدا ہوئے وہ اس قوتِ اجتہاد کے حد درجہ محتاج تھے کیونکہ ان کے دین کی حفاظت ہی اس قسم کے مسائلِ اجتہادیہ میں اسی اجتہاد کے ذریعہ ہو سکتی تھی۔ اس لیے خدائے رحیم و کریم نے بے شمار صحابہ کرام تابعین عظام، تبع تابعین اور بعد والوں کو (رضوان اللہ علیہم اجمعین) اس دولتِ اجتہاد سے سرفراز فرمایا۔ جناب رسول کریم ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے صاف لفظوں میں نعمتِ اجتہاد کی تائید و تحسین اور اس پر اپنی مسرت کا اظہار فرمایا ابوداؤد شریف کی روایت میں ہے۔

عن معاذ بن جبل ان رسول الله ﷺ لما بعثه الى اليمن قال كيف تقضى اذا عرض لك قضاء؟ قال اقصى بكتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله ﷺ قال فان لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله قال اجتهد برائي ولا آلو فضرب رسول الله ﷺ صدره فقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضى رسول الله (۱)

ترجمہ:- حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے ان کو یمن بھیجا تو فرمایا جب کوئی قضیہ پیش آئے تو کس طرح فیصلہ کرو گے عرض کیا

کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا آپ نے فرمایا اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ملے تو؟
 عرض کیا رسول اللہ ﷺ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا آپ ﷺ نے فرمایا اگر
 کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ دونوں میں نہ ملے تو؟ عرض کیا اس وقت اپنی رائے
 سے فیصلہ کروں گا اور (حق تک پہنچنے کی کوشش میں) کوئی کوتاہی نہیں کروں گا اس پر
 آنحضرت ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے سینہ پر ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کا شکر، یہ کہ
 اس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی ہے۔

الغرض! اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہی حضرات مجتہدین نے مسائل شرعیہ غیر
 منصوصہ میں اجتہاد کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اور جو حضرات رتبہ اجتہاد تک نہیں پہنچ سکتے تھے
 انہوں نے یہ یقین کر کے کہ یہ حضرات مجتہدین علم و تقویٰ فہم و فراست دین و دیانت
 اور توفیق الہی سے سرفراز ہونے میں ہم سے بڑھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بذریعہ
 اجتہاد جو کچھ معلوم کیا ہے وہ درحقیقت یا تو رسول اللہ ﷺ کی وہ احادیث ہیں جو
 بغرض اختصار موقوف کر دی گئی ہیں۔ یا صحیح استنباطات ہیں جو نصوص کتاب و سنت سے
 لیے گئے ہیں اس لیے وہ بہر حال قابل اتباع ہیں۔ اس بنا پر عمل کرنا شروع کر دیا۔
 حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ الانصاف میں فرماتے۔

ويستدل باقوال الصحابة والتابعين علماً منهم انها احاديث منقولة عن
 رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصروها فجعلوها موقوفة الى ان قال او ان
 يكون استنباطاً منهم من المنصوص او اجتهاداً منهم بأرائه وهم احسن
 صنيعاً في كل ذلك ممن يعنى بعدهم واكثر اصابة واقدم زماناً وادعى علماً
 فتعين العمل بها (۱)

ترجمہ: - اور (تابع تابعین) صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال سے استدلال کیا
 کرتے تھے کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ اقوال یا تو احادیث ہیں جو منقول ہیں رسول
 اللہ ﷺ سے جن کو مختصر کر کے موقوف بنا لیا ہے یا یہ اقوال حکم

منصوص سے حضرات صحابہ و تابعین کے استنباط ہیں یا ان کی رایوں سے بطور اجتہاد لیے گئے ہیں اور حضرات صحابہ کرام اور تابعین ان سب باتوں میں ان لوگوں سے بہتر ہیں جو ان کے بعد میں ہوئے۔ صحت تک پہنچنے میں اور زمانے کے اعتبار پیشتر اور علم کے لحاظ سے بڑھ کر ہیں اس لیے ان کے اقوال پر عمل کرنا متعین ہوا۔

بزرگوں پر اعتماد کرنا ہی اصل شریعت ہے

اپنے اسلاف پر اعتماد کرنا اور ان کے ساتھ حسن ظن کا معاملہ رکھنا وہ دولت ہے جس کے صدقہ میں آج دین اپنی صحیح شکل میں ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے اسی بات کو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے عقد الجید میں بیان فرمایا ہے۔

ان الامة اجتمعت على ان يعتمدوا على السلف في معرفة الشريعة
فالتابعون اعتمدوا في ذلك على الصحابة وتبع التابعين اعتمدوا على التابعين
وهكذا في كل طبقة اعتمدوا العلماء على من قبلهم والعقل يدل على حسن
ذلك لان الشريعة لا يعرف الا بالنقل والاستنباط والنقل لا يستقيم الا بان
ياخذ كل طبقة عن قبلها بالا اتصال (۱)

ترجمہ :- معرفت شریعت میں تمام امت نے بالاتفاق سلف گذشتہ پر اعتماد کیا ہے چنانچہ تابعین نے صحابہ کرام اور تبع تابعین نے تابعین پر اعتماد کیا اسی طرح بعد والے علماء اپنے متقدمین پر اعتبار کرتے آئے۔ اور عقل سلیم بھی اس کو اچھا سمجھتی ہے کیونکہ شریعت بغیر نقل اور استنباط کے معلوم نہیں ہو سکتی اور نقل اسی وقت صحیح ہوگی جب بعد والے پہلوں سے اتصال کے ساتھ لیتے چلے آئیں۔

خطیب بغدادی نے "الفقیہ والمتفقہ" میں اجتہاد اور تقلید کی ان ضروریات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں:

والاحکام على ضربين عقلي و شرعي - فالعقلى فلا يجوز فيه التقليد
كمعرفة الصانع وصفاته ومعرفة الرسول ﷺ وصدقہ وغير ذلك من الاحکام

وَحَكِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِي أَصُولِ الدِّينِ
 وَهَذَا خَطَأٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ
 أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (الاعراف) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
 قَالُوا بَلِ نَتَّبِعُ مَا الْفِئْتَانُ عَلَيْنَا وَإِنَّا لَمُتَّبِعُونَ (البقرة)
 وَأَمَّا الْأَحْكَامُ فَضَرَبَانِ أَحَدُهُمَا مَا يُعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ مِنْ دِينِ الرَّسُولِ ﷺ

كَالصَّلَاةِ وَالْخُمْسِ وَالزَّكَاةِ وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَالْحَجَّ وَتَحْرِيمِ الزَّانَا
 وَشَرَبِ الْخَمْرِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهَذَا لَا يَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِيهِ لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ
 يَشْتَرِكُونَ فِي إِدْرَاكِهِ وَالْعِلْمُ بِهِ فَلَا مَعْنَى لِلتَّقْلِيدِ فِيهِ - وَضَرَبَ لَا يَعْلَمُ إِلَّا بِالنَّظَرِ
 وَالِاسْتِدْلَالِ كَفُرُوعِ الْعِبَادَاتِ وَالْمَعَامَلَاتِ وَالْمَنَاقِحَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ
 الْأَحْكَامِ فَهَذَا يَسُوعُ فِيهِ التَّقْلِيدُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ
 لَا تَعْلَمُونَ (النحل) وَأَمَّا مَنْ يَسُوعُ لَهُ التَّقْلِيدُ فَهُوَ الْعَامِيُّ الَّذِي لَا يَعْرِفُ طَرَفَ
 أَحْكَامِ شَرِيعَتِهِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْلِدَ عَالِمًا وَيَعْمَلُ بِقَوْلِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَاسْأَلُوا أَهْلَ
 الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (وأهل الذکر اهل العلم كما قال عمر بن قیس)

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ جَرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْتَلَمَ فَامَرَ بِالِاغْتِسَالِ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَقَالَ قَتَلُوهُ قَتَلْتُمُوهُ اللَّهُ إِنْ شَفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ الْخ -

وَلِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الاجْتِهَادِ فَكَانَ فَرْضُهُ التَّقْلِيدُ كَتَّقْلِيدِ الْعَامِيِّ فَانَّهُ
 لَمَّا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ آلَةُ الاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ كَانَ عَلَيْهِ تَقْلِيدُ الْبَصِيرِ فِيهَا (١)

ترجمہ :- احکام کی دو قسمیں ہیں۔ عقلی اور شرعی۔

عقلی احکام میں تقلید جائز نہیں ہے جیسے صانع عالم اور اس کی صفات کی معرفت اس
 طرح رسول اللہ ﷺ اور آپ کے سچے ہونے کی معرفت وغیرہ عبید اللہ حسن عنبری
 سے منقول ہے کہ وہ اصول دین میں بھی تقلید کو جائز کہتے تھے۔ لیکن یہ غلط ہے اس
 لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے رب کی جانب سے جو وحی آئی اسی پر عمل کرو اس کے

(١) الفقیہ والمتفقہ ج ٢ ص ١٤٨ تا ١٣٣ مطبوعہ دار ابن الجوزیہ

علاوہ دوسرے اولیاء کی اتباع نہ کرو کس قدر کم تم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کی اتباع کرو تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم اس چیز کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ و دادا کو پایا ہے چاہے ان کے باپ و دادا بے عقل اور بے ہدایت ہوں۔
دوسری قسم احکام شرعیہ، اور ان کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) دین کے وہ احکام جو وضاحت و صراحت کے ساتھ معلوم ہوں۔ جیسے روزہ نماز حج زکوٰۃ اسی طرح زنا اور شراب کا حرام ہونا وغیرہ تو ان میں تقلید جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے جاننے میں سارے لوگ برابر ہیں اس لیے ان میں تقلید کا کوئی معنی نہیں۔

(۲) دین کے وہ احکام جن کو نظر و استدلال کے بغیر نہیں جانا جاسکتا جیسے عبادات معاملات۔ نکاح وغیرہ کے فروعی مسائل تو ان میں تقلید کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے قول فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون کی دلیل سے۔ اور وہ لوگ جن کو تقلید کرنی ہے وہ حضرات ہیں جن کو احکام شرعیہ کے استنباط کے طریقے معلوم نہیں ہیں۔ تو ان کے لیے کسی عالم کی تقلید اور اس کے قول پر عمل کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اہل علم سے معلوم کرو اگر تم کو معلوم نہیں ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی حضور ﷺ کے دور مبارک میں زخمی ہو گئے پھر انہیں غسل کی حاجت ہو گئی لوگوں نے انہیں غسل کرنے کا حکم دے دیدیا جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ اس کی اطلاع نبی کریم ﷺ کو ہوئی تو آپ نے فرمایا خدا ان کو برباد کرے ان لوگوں نے تو اس پچارے کو قتل کر دیا۔ عاجز رہ جانے والے کی کامیابی سوال کر لینے ہی میں ہے۔

دوسری اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ شخص اہل اجتہاد میں سے نہیں ہے تو اس پر تقلید ہی فرض ہے۔ جیسے اندھا جب اس کے پاس ذریعہ علم نہیں ہے تو قبلہ کے سلسلہ میں اس کو کسی دیکھنے والے کی بات ماننی ہوگی۔

تقلید کی حقیقت

جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ تمام شریعت کی جڑ ہی گذشتہ بڑوں پر اعتماد و اعتبار ہے تو اب تقلید کا معنی سمجھنا آسان ہو گیا کہ کسی آدمی کا کسی رہنمائے دین کے قول و فعل کو محض حسن ظن کی بنا پر تسلیم کر کے عمل کر لینا اور اپنے تسلیم و عمل کو اس بزرگ کی دلیل معلوم ہونے تک ملتوی نہ کرنا۔

مولانا قاضی محمد اعلیٰ صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

التقلید: اتباع الانسان غيره فيما يقول او يفعل معتقداً للحقية من غير نظر الى الدليل كان هذا المتبع جعل قول الغير او فعله قلادة في عنقه من غير مطالبة دليل (۱)

ترجمہ: تقلید انسان کا اپنے غیر کی اتباع کرنا اس کے قول یا فعل میں

اسے حق سمجھتے ہوئے دلیل پر نظر کیے بغیر گویا اس متبع نے غیر کے قول یا فعل کو بلا کسی دلیل کے مطالبہ کے اپنی گردن کا ہار بنا لیا۔

نامی شرح حسامی کے اندر سے التقلید اتباع الغير علی انه محق بلا نظر فی الدلیل۔

ترجمہ: تقلید غیر کی اتباع کرنا اس کے برحق ہونے کے گمان پر بلا کسی دلیل کے مطالبہ کے۔

دونوں تعریفوں کا حاصل یہی ہے کہ مجتہد کے قول و فعل کو معلوم کر کے محض حسن ظن اور عقیدت کی بنا پر تسلیم اور عمل کرے اور تسلیم و عمل کے وقت مجتہد کی دلیل کی فکر نہ کرے۔ اور نہ اس سے دلیل طلب کرے خواہ بعد میں وہی دلیل معلوم ہو جائے جو مجتہد کے پیش نظر تھی یا اپنے مطالعہ اور تحقیق سے اس مسئلہ کے بہت سے دلائل معلوم ہو جائیں تو یہ معلوم ہو جانا تقلید کے خلاف نہیں ہے تقلید کے مفہوم میں عمل کرتے وقت اور تسلیم کرتے وقت دلیل کا مطالبہ نہ کرنا داخل ہے لیکن دلیل نہ ہونا یا دلیل کا علم نہ ہونا یہ مفہوم تقلید میں داخل نہیں ہے لہذا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ تقلید لوازم جہالت میں ہے صحیح نہیں ہے۔

تقلید شخصی اور غیر شخصی کی تعریف

تقلید کی تعریف کے بعد یہ جاننا چاہئے کہ تقلید کی دو قسمیں ہیں (۱) تقلید شخصی (۲) اور تقلید غیر شخصی۔ تقلید شخصی یہ ہے کہ ایک معین مذہب کی تقلید کرنا جس کی نسبت کسی ایک امام کی طرف ہو۔

تقلید غیر شخصی یہ ہے کہ ایک متعین مذہب کی تمام مسائل میں پابندی نہ کرنا بلکہ کوئی مسئلہ کسی مجتہد کا لینا اور کوئی مسئلہ کسی اور مجتہد کا لینا۔

تقلید غیر شخصی کا دور

جناب نبی کریم ﷺ کے دور مبارک میں مسائل دیدیہ حاصل کرنے کے تین طریقے تھے ایک تو خود جناب رسول اللہ ﷺ کی ذات گرامی دوسرا طریقہ اجتہاد۔ تیسرا تقلید جو لوگ حضور ﷺ کے قریب تھے یا ان کی حضور ﷺ سے ملاقات یا رابطہ آسان تھا تو وہ حضور ﷺ سے دریافت کر لیتے تھے۔ لیکن جن لوگوں کی حضور ﷺ سے ملاقات یا رابطہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو وہ حضرات اگر اپنے اندر خود اجتہاد کی صلاحیت رکھتے تھے تو اجتہاد کر لیتے تھے اور اگر صلاحیت اجتہاد نہ ہوتی یا اجتہاد نہ کرنا چاہتے تو جو معتبر عالم مل جاتا اس سے تحقیق کر لیتے اور عمل پیرا ہو جاتے تھے..... حضور ﷺ کے وصال کے بعد اب دین حاصل کرنے کے دو ہی طریقے رہ گئے ایک اجتہاد دوسرا تقلید خدائے کریم کے اس امت پر خصوصی فضل و کرم کی وجہ سے امت میں بے شمار مجتہدین پیدا ہوئے۔ مگر ابتداء میں کسی مجتہد کے اصول و قواعد منضبط اور مرتب نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی ان کے مسائل اجتہاد یہ فرعیہ منضبط اور مدون ہوئے تھے اس لئے کسی خاص مجتہد کے تمام مسائل اجتہاد یہ کی اطلاع حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا آسان نہ تھا۔ اس وجہ سے جس کو جو مجتہد مل جاتا اس سے اپنی ضرورت کا مسئلہ دریافت کر کے اس مسئلہ میں اسی کی تقلید کر لیتا۔ کسی خاص مجتہد کی پابندی نہ تھی اور لوگوں کے طبائع میں دین اور تقویٰ

کے غلبہ کی وجہ سے اس کی ضرورت بھی نہ تھی اور نہ ہی اس وقت یہ ممکن تھا یہ سلسلہ دوسری صدی کے اخیر تک بلا کسی تکبیر کے جاری رہا۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی عقد الجید میں فرماتے ہیں۔

لان الناس لم يزالو من زمن الصحابة الى ان ظهرت المذاهب الاربعة
يقلدون من اتفق من العلماء من غير تكبير من احد يعتبر انكاره ولو كان ذلك
باطلاً لا نكروه (۱)

ترجمہ :- اس لیے کہ لوگ زمانہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مذاہب اربعہ کے ظاہر

ہونے تک جو علماء انہیں مل جاتے تھے ان کی تقلید کر لیا کرتے تھے اس پر کسی معتبر آدمی

نے انکار بھی نہیں کیا اگر یہ غلط ہوتا تو لوگ ضرور اس پر تکبیر کرتے۔

تقلید شخصی کا رواج

دوسری صدی ہجری میں مجتہدین کرام کے اصول و فروع کی تدوین اور ترتیب کا سلسلہ شروع ہوا۔ مجتہدین کرام کے قابل قدر شاگردوں نے اپنے اساتذہ کرام کے مذاہب کی بقا اور ان کی ترویج و اشاعت کی کوشش کرنی شروع کیں تو دوسری صدی کے بعد اکثر لوگوں میں مذہب معین کی تقلید کا سلسلہ شروع ہوا۔ مگر اس وقت چونکہ مجتہدین حضرات کے مذاہب کے مدون اور مرتب مجموعے ہر جگہ موجود نہ تھے اور نہ ہر شخص کو باسانی فراہم ہو سکتے تھے۔ اس لیے یہ مجموعے جن حضرات کی دسترس سے باہر تھے وہ اب بھی حسب دستور تقلید غیر شخصی پر ہی عامل تھے۔ اور جو حضرات تقلید شخصی پر عمل کرنے لگے تھے وہ بھی ان چار مذاہب تک محدود نہ تھے۔ بلکہ ان چار کے علاوہ بہت سے مجتہدین کے مذاہب اور ان کے ماننے والے پائے جاتے تھے اور تقلید شخصی اور غیر شخصی کی ملی جلی مگر تقلید شخصی کے غلبہ کی یہ کیفیت چوتھی صدی ہجری تک جاری رہی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ الانصاف میں فرماتے ہیں۔

وبعد المأتین ظہر فیہم التمدہب للمجتہدین باعیانہم وقلہ من کان لا یعمد علی مذہب مجتہد بعینہ وکان هذا هو الواجب فی ذالک الزمان۔ (الانصاف ص ۵۲)

ترجمہ :- دوسری صدی کے بعد لوگوں میں متعین مجتہدین کے مذہب پر چلنے کا رواج ظاہر ہوا۔ کسی غیر متعین مذہب پر نہ چلنے والوں کی تعداد بہت کم ہو گئی اور اس زمانے میں یہی واجب تھا۔

مذہب اربعہ میں تقلید شخصی کا انحصار

مگر چوتھی صدی ہجری میں جب مذہب اربعہ (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی) کی کتابیں مرتب اور مذہب ہو کر اطراف عالم میں پھیل گئیں اور ان مذاہب پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ اور ان چاروں حضرات کے علاوہ دیگر مجتہدین کرام کے مذہب کے آثار جو چوتھی صدی ہجری سے قبل کچھ نہ کچھ پائے جاتے تھے رفتہ رفتہ مفقود ہوتے گئے۔ یہاں تک کہ ان چاروں حضرات کے مذاہب کے سوا اہل حق کا کوئی اور مذہب باقی نہ رہ گیا اور اب کسی نے اجتہاد کی ضرورت بھی نہ تھی تو مشیت الہی سے انہیں چاروں مذاہب کے اندر تقلید شخصی کا انحصار ہو گیا۔ حضرت شاہ صاحب "عقد الجید" میں فرماتے ہیں۔

"لما اندرست المذاهب الحقہ الاہذہ کلن اتباعها اتباعاً لسواد الاعظم" (عقد الجید ص ۳۳)

ترجمہ :- جب ان چاروں کے علاوہ دیگر مذاہب حقہ ناپید ہو گئے تو اب ان کی اتباع ہی سواد اعظم کی اتباع ہے۔

علامہ ابن خلدون مقدمہ تاریخ میں فرماتے ہیں۔

وقف التقليد فی الديار والامصار عند هولاء الاربعة ودررس المقلدون لما سواہم وسند الناس باب الخلاف وطرقہ ولما كثرت تشعب الاصطلاحات فی العلوم ولما عاق عن الاصول الی رتبة الاجتہاد ولما خشی من اسناد الی غیر اہلہ من لا یوثق بدینہ ولا رأیہ فصرحوا بالعجز والا عوا زورد النناس الی تقلید ہؤلاء کل من اختص من المقلدین وخطروا ان يتداول تقلید ہعہم لما فیہ من

التلاعب ولم يبق الا نقل مذاهبهم وعمل كل مقلد بمنه من قلده منهم بعد تصحيح الاصول واتصال سندها بالرواية لا محصول اليوم للفقہ غیر هذا ومدعی الاجتهاد لهذا العهد مردودٌ على عقبه ومهجورٌ تقليده وقد صار اهل الاسلام على تقليد هو ء لاء الاربعة . (مقدمہ ابن خلدون ص ۴۲۸)

ترجمہ :- دیار و امصار میں انہیں ائمہ کرام پر تقلید آ کر ٹھہرائی گئی اور ان کے علاوہ کے مقلدین حضرات ختم ہو گئے لوگوں نے اختلافات کے راستے اور دروازے بند کر دیئے اور چونکہ اصطلاحات علمیہ بدل گئیں اور لوگ رتبہ اجتهاد تک پہنچنے سے باز رہ گئے اور یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں اجتهاد کا سلسلہ ایسے آدمی تک نہ پہنچ جائے جو اس کا اہل نہ ہو۔ اور اس کی رائے اور دین داری قابل اعتماد نہ ہو۔ اس بنا پر علمائے کرام نے اجتهاد سے اپنا بجز اور اس کے دشوار ہونے کی صراحت کر دی اور لوگ جن مجتہدین کی تقلید کرتے چلے آ رہے تھے انہیں کی تقلید کی ہدایت کرنے لگے انہوں نے اس بات کا خطرہ محسوس کیا کہ کبھی کسی اور کبھی کسی کی تقلید دین کو کھیل نہ بنا دے۔ لہذا اب صرف مذاہب فقہیہ کی نقل باقی رہ گئی۔ اصول کی تصحیح اور سند کے اتصال کا لحاظ کر کے ہر مقلد اپنے مجتہد کی تقلید کرنے لگا۔ اور اب فقہ کا حاصل اس کے سوا کچھ نہیں رہ گیا اور اس زمانے میں اجتهاد کا دعویٰ کرنے والا قابل رد اور اس کی تقلید قابل ترک ہے اب اہل اسلام کا انہیں چاروں مذاہب کی تقلید پر اجماع ہو گیا۔

فضل الہی سے صرف ائمہ اربعہ کے مذاہب کا باقی رہ جانا

حاصل یہ ہا کہ چوتھی صدی ہجری کے بعد سارے مذاہب فقہیہ ناپید ہو گئے اور پورے عالم میں اہل حق کے گروہ میں سے صرف ائمہ اربعہ کے مقلدین ہی باقی رہ گئے تو اب وہی صورت سامنے رہ گئی یا تو لوگ اپنی رایوں اور خیالوں کو کافی سمجھ کر دین کو کھیل دیتے ہیں اور خدائے اہشوات نفسانی کا اتباع کرنے لگیں یا پھر ائمہ اربعہ کے محفوظ اور برحق مذاہب میں سے کسی کی تقلید کر کے اپنے دین کو بچالیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کو حضور ﷺ

کی امت کو قیامت تک گمراہی سے بچانا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے غیب سے یہ نظم فرمایا کہ خود بخود لوگوں کے قلوب میں ائمہ اربعہ کی تقلید شخصی کی محبت پیدا ہوگئی اور ان کا دین و ایمان اختلاف و انتشار کا شکار ہونے سے بچ گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی "الانصاف" میں فرماتے ہیں۔

فالتمذہب للمجتہدین . . . سر الہمہ اللہ تعالیٰ العلماء و جمعہم علیہ من حیث یشعرون اولاً یشعرون۔

ترجمہ :- ائمہ اربعہ کے مذاہب کو اختیار کر لینا ایک راز ہے جو اللہ نے اس امت کے علماء کے قلوب میں ڈال کر انہیں اس پر جمع کر دیا۔ خواہ وہ اس کے راز کو سمجھیں یا نہ سمجھیں۔

چنانچہ چوتھی صدی ہجری کے بعد جتنے بڑے بڑے علماء کرام اور محدثین عظام گذرے ہیں وہ کے سب ان میں سے کسی نہ کسی کے مقلد ہوئے ہیں۔ حافظ زیلعی، علامہ طیبی، "محقق ابن الہمام، ملا علی قاری وغیرہ جو علم حدیث میں جلیل القدر رتبوں کے حامل ہیں حنفی المذہب تھے۔ ابن عبدالبر جیسے عالی مرتبہ محدث مالکی تھے۔

نووی، بغوی، خطابی، ذہبی، عسقلانی، قسطلانی، سیوطی، وغیرہ جن کا فن حدیث میں طوطی بولتا ہے شافعی المذہب تھے۔ علامہ ابن تیمیہ، حافظ ابن القیم وغیرہ حنبلی تھے۔

اب تک کے مباحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ حالات زمانہ کے پیش نظر دوسری صدی تک تو تقلید غیر شخصی ہی رائج رہی۔ پھر دوسری صدی کے بعد تیسری صدی کے اخیر تک تقلید غیر شخصی کم اور تقلید شخصی زیادہ رائج رہی پھر چوتھی صدی ہجری میں تقلید شخصی ہی کے انحصار پر امت کے سوا اعظم کا اجتماع ہو گیا۔ جو اللہ کے فضل سے آج تک باقی ہے اور اس امت مرحومہ کے حق میں رحمت الہی تائید ربانی اور نصرت غیبی ہے۔ اور بقول

صاحب تفسیر احمدی لا محال فیہ للتوجیہات والادلۃ۔ (تفسیر احمدی ص ۲۹۷)

یہ فضل الہی کسی توجیہ اور دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن بد قسمتی سے دھر کچھ لوگوں کو حفاظت شریعت اور ہدایت امت کا یہ غیبی اور ربانی سلسلہ پسند نہیں آیا، اور اس کے

خلاف ایک ہنگامہ برپا کر کے اسے ناجائز حرام بدعت بلکہ شرک تک کہنے کی جسارت میں مبتلا ہو گئے اور سادہ لوح عوام کو شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے انہیں تقلید ائمہ سے روکنا شروع کر دیا..... اس لیے اس سلسلہ میں کتاب و سنت سے کچھ دلائل پیش کیے جاتے ہیں تاکہ حق طلب طبیعتیں مطمئن ہو سکیں۔ یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ تقلید کی دو قسمیں ہیں شخصی اور غیر شخصی اس لیے نفس تقلید کے ثبوت سے ان دونوں کا ثبوت ہوگا۔ کیونکہ مطلق تقلید میں دونوں داخل ہیں۔

تقلید کا ثبوت قرآن کریم سے

پہلی آیت:- فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون (النحل)

ترجمہ:- اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے دریافت کرو۔

صاحب روح المعانی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

واستدل بها علی وجوب المراجعة للعلماء فیما لانعلم (روح المعانی ص ۱۳۸ ج ۲)

اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ جس بات کا خود علم نہ ہو اس میں علماء کی

جانب رجوع کرنا واجب ہے۔

حافظ ابو عمر ابن عبدالبر المتوفی ۳۶۳ ہجری فرماتے ہیں۔

ولم یختلف العلماء ان العامة علیها تقلید علماء ہم وانہم مرادون بقول اللہ عزوجل فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون۔ واجمعوا علی ان الاعمی لا بد له من تقلید غیرہ ممن یشق بمیزہ بالقبلة اذا اشکلت علیہ کذالك من لاعلم له ولا بصر بمعنی ما یدین بہ لا بد له من تقلید عالمہ

(جامع بیان العلم وفضلہ ص ۹۸۹، ج ۲)

ترجمہ:- علمائے کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عوام کے لیے اپنے علماء کی تقلید

واجب ہے اور اللہ کے قول فاسئلوا اهل الذکر الخ سے یہی لوگ مراد ہیں۔ اور سب کا

اتفاق ہے کہ اندھے پر جب قبلہ مشتبہ ہو جائے تو جس شخص کی تمیز پر اسے بھروسہ ہے

قبلہ کے سلسلہ میں اس کی بات ماننی لازم ہے اسی طرح وہ لوگ جو علم اور دینی بصیرت

سے عاری ہیں ان کے لیے اپنے عالم کی تقلید لازم ہے۔
ابوبکر احمد علی الخطیب بغدادی متوفی ۴۶۲ھ کے حوالہ سے بھی یہ بات گذر چکی ہے
کہ اس آیت میں اہل الذکر سے ”اہل علم“ ہی مراد ہیں..... حاصل یہ کہ اس آیت
سے تقلید کا ثبوت نہایت وضاحت اور صراحت سے ہوتا ہے۔

دوسری آیت :- و اذا جاء ہم امر من الامن او الخوف اذا عوا بہ و لور دواہی الرسول
والی اولی الامر منهم لعلہم الذین یستنبطونہ منهم (سورۃ النساء پ ۵)

ترجمہ :- جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اسے مشہور

کردیتے ہیں۔ اگر پیغمبر خدا اور اپنے میں سے اولی الامر کے پاس اسے لے جاتے
تو ان میں جو اہل استنباط (یعنی مجتہدین) ہیں اسے اچھی طرح جان لیتے۔

اس آیت میں از خود عمل کرنے اور اہم معاملات کی تشہیر کو منع کر کے مجتہدین کی
طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ مسئلہ کی حقیقت کا حقہ وہی لوگ سمجھ سکتے
ہیں نیز اس آیت میں معاملہ کو لوٹانے میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ علماء مجتہدین کو
شریک کر کے یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح رسول اللہ ﷺ کی جانب رجوع کرنا
محض حسن ظن اور اعتبار و اعتماد کی بنا پر ہے اسی طرح مجتہدین کی طرف رجوع کرنا محض
حسن ظن اور اعتبار و اعتماد کے ساتھ ہونا چاہئے گو اعتماد کی نوعیت میں دونوں جگہ بڑا فرق
ہے۔ اسی چیز کو اصطلاح میں تقلید کہا جاتا ہے۔

امام رازی رحمۃ اللہ تفسیر کبیر میں اس آیت سے چند امور اخذ کرتے ہوئے تحریر
فرماتے ہیں۔

فثبت ان الاستنباط حجة والقیاس اما الاستنباط او داخل وفيہ فوجب
ان یکون حجة اذ ثبت هذا فنقول الآیة دالة علی امور احدھا ان فی احکام
الحوادث ما لا یعرف بالنص بل بالاستنباط وثانیھا ان الاستنباط حجة
وثالثھا ان العامی یجب علیہ تقلید العلماء فی احکام الحوادث (۱)

ترجمہ: - تو ثابت ہوا کہ استنباط حجت ہے اور قیاس یا تو استنباط ہے یا اس میں داخل تو وہ بھی حجت ہو اور جب یہ بات ثابت ہوگئی تو ہم کہتے ہیں کہ آیت چند امور پر دلالت کرتی ہے (۱) پیش آمدہ مسائل میں بعض ایسے امور ہیں، جو نص سے نہیں بلکہ استنباط سے جانے جاسکتے ہیں (۲) استنباط حجت ہے۔ (۳) عام آدمی کے لیے ان پیش آمدہ مسائل میں علماء کی تقلید واجب ہے۔

تیسری آیت: - یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم (سورۃ النساء پ ۵)

ترجمہ: - اے ایمان والو اللہ اور رسول اور اپنے میں سے اولو الامر کی اطاعت کرو۔

لفظ "اولی الامر" کی تفسیر، مفسرین کرام نے حکام و سلاطین اور علمائے مجتہدین دونوں سے کی ہے۔ مگر یہاں علمائے مجتہدین مراد لینا زیادہ بہتر اور راجح ہے کیونکہ حکام دنیوی احکام دینیہ میں خود مختار نہیں ہیں بلکہ وہ علمائے شریعت کے بتلائے ہوئے احکام پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ لہذا علمائے کرام حکام دنیاوی کے حاکم اور امیر ہوئے۔ صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں۔

ان اعمال الامراء والسلاطین موقوفة علی فتاوی العلماء والعلماء فی الحقیقة امراء الامراء فکان حمل لفظ اولی الامر علیہم اولی -

تفسیر کبیر ص ۳۳۳، ج ۳

ترجمہ: - بے شک امراء و سلاطین کے اعمال علمائے کرام پر موقوف ہیں اور

علماء درحقیقت سلاطین کے بھی امیر ہیں تو لفظ "اولی الامر" کا ان پر محمول کرنا زیادہ بہتر ہے

اسلاف میں حضرت ابن عباسؓ حضرت جابر بن عبد اللہؓ حضرت عطاءؓ حضرت مجاہدؓ حضرت حسن بصریؓ، حضرت ضحاکؓ، حضرت امام مالکؓ وغیرہ کی یہی رائے ہے کہ "اولی الامر" سے علماء فقہاء اور مجتہدین مراد ہیں۔

(تفصیل کے لیے دیکھئے تفسیر خازن۔ مدارک وغیرہ)

یہ بات ذہن میں رہے کہ ”اولی الامر“ کی تفسیر میں علماء اور فقہاء کا جو لفظ آیا ہے اس سے مجتہدین ہی مراد ہیں صاحب روح المعانی فرماتے ہیں۔

فان العلماء هم المستنبطون المستخرجون الاحکام (۱)

ترجمہ :- بے شک علماء سے مراد وہ حضرات ہیں جو احکام کا استنباط اور انہیں اخذ کرتے ہیں۔

جب یہ بات واضح ہوگئی کہ شریعت میں اولی الامر سے مجتہدین مراد ہیں تو ان کی بھی اتباع واجب ہوئی اور اتباع وہی کرتا ہے جو متبوع کے درجے کو نہ پہنچے تو اس آیت سے صاف ثابت ہوا کہ وہ مسلمان جو خود مجتہد نہیں ہے اس کے لئے کسی مجتہد کی اطاعت اور اس کی تقلید واجب ہے۔ اب رہی یہ بات کہ مجتہد کا اجتہاد محض حسن ظن کی بنیاد پر مان لیا جائے یا اس سے دلیل طلب کی جائے۔ تو اس کا جواب خود آیت سے طلب کیا جائے چنانچہ ”اولی الامر“ کو فعل اطاعت کے اعادہ کے بغیر ”الرسول“ پر عطف کیا گیا ہے۔ جو اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ جس طرح رسول ﷺ کی اطاعت بغیر دلیل طلب کیے ہوئے محض حسن ظن کی بنیاد پر واجب ہے اسی طرح مجتہد کی اطاعت بھی مسائل اجتہاد یہ میں حسن ظن کی بنیاد پر دلیل طلب کیے بغیر ہونی چاہئے۔ اگرچہ حسن ظن کا منشاء دونوں جگہ الگ ہے۔ پہلی جگہ حسن ظن کا منشاء ذات رسالت ہے جس کی اطاعت واجب قطعی ہے۔ دوسری جگہ حسن ظن کا منشاء مجتہد کا تقویٰ اور اس کا علم صحیح ہے جس کی اطاعت واجب ظنی ہے۔ اور کسی مجتہد کی ایسی اطاعت جس کی بنیاد حسن ظن ہو اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ لہذا اس آیت سے ثبوت تقلید اظہر من الشمس ہو گیا۔

احادیث مرفوعہ سے تقلید کا وجوب

۱- عن ابی حذیفۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر۔ (ترمذی ص ۲۰۷، ج ۲)

ترجمہ :- ان دنوں کی اقتداء کرو جو میرے بعد ہو یعنی ابو بکر اور عمر کی

اس حدیث میں شیخین کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ان سے دلیل طلب کرنے کا حکم نہیں فرمایا گیا اسی کو تقلید کہتے ہیں۔

۲- عن العرباض ابن ساریۃؓ یقول قام فینا رسول اللہ ﷺ قال سترون من بعدی

اختلافاً شدیداً فعلیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدين المہدیین۔ (ابن ماجہ ص ۵)

ترجمہ :- عرباض بن ساریہؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ہم میں

خطبہ دیا (اور اس کے درمیان فرمایا) میرے بعد تم لوگ بہت سے اختلافات دیکھو گے

تو میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کی پابندی کرو۔

اس حدیث سے علمائے کرام نے خلفائے راشدین کے عموم میں ائمہ مجتہدین کو

بھی داخل کیا ہے۔

حضرت شاہ عبدالغنی صاحب "حاشیہ ابن ماجہ میں تحریر فرماتے ہیں۔

ومن العلماء من كان على سيرته عليه السلام من العلماء والخلفاء

كالائمة الاربعة المتبوعين المجتهدين والائمة العادلين كعمر بن عبد العزيز

كلهم موارد لهد الحديث۔ (انجام الحاشیہ علی ابن ماجہ ص ۵)

ترجمہ :- جو جناب رسول اللہ ﷺ کے طریقے پر ہوں، جیسے چاروں ائمہ اور عادل

حکام جیسے عمر بن عبدالعزیز سب اس حدیث کے مصداق ہیں۔

علمائے کرام کے اقوال سے تقلید کا ثبوت

چوتھی صدی ہجری کے بعد جتنے مستند اور معتبر علمائے کرام گذرے ہیں سب نے

تقلید کی ہے اور تقلید کے وجوب کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ بہت سارے اہم ترین علمائے

کرام کے اقوال گذشتہ مباحث میں بیان کیے جا چکے ہیں اگر ان تمام علمائے کرام کے

اقوال کو جمع کیا جائے تو ایک دفتر بے پایاں ہو جائے۔ یہاں بطور اختصار۔ مزید چند علماء

کرام کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے۔

یحب علی العامی وغیرہ ممن لم یبلغ مرتبة الاحتیاد التزام مذهب

معین من مذاہب المجتہدین (شرح جمع الجوامع بحوالہ خیر التفتید ص ۱۷۵)
 عام لوگ اور وہ حضرات جو اجتہاد کے درجے کو نہ پہنچیں ان پر مذاہب مجتہدین میں
 سے کسی ایک معین کی تقلید واجب ہے۔
 حضرت شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ اللہ میں فرماتے ہیں۔

إن هذه المذاهب الأربعة المدونة المحررة قد اجتمعت الأمة أو من يعتمد به
 منها على جواز تقليدها إلى يومنا هذا وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى لا
 سيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم جداً واشربت النفوس الهوى
 وأعجب كل ذي رأى برأيه۔ (حجۃ اللہ البالغۃ ص ۱۵۲، ج ۱، طبع مصر)

اس میں شک نہیں کہ ان چاروں مذاہب کی اب تک تقلید کے جائز ہونے پر تمام امت
 کا یا حنکی بات کا اعتبار کیا جاسکتا ہے اجماع ہے اس لیے کہ یہ مدون ہو کر تحریری صورت
 میں موجود ہیں اور اس میں جو مصلحتیں ہیں وہ بھی مخفی نہیں خصوصاً اس زمانہ میں جبکہ ہمتیں
 بہت ہی زیادہ پست ہو چکی ہیں اور ہر صاحب رائے اپنی ہی رائے پر نازاں ہے۔
 بحر العلوم مولانا عبد العلی فرنگی محلیؒ شرح مسلم الثبوت میں فرماتے ہیں۔
 وعلیہ بنا ابن الصلاح منع التقليد غیر الائمة الاربعة۔

(فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ص ۲۶۹)






اسی بناء پر ابن صلاح نے ائمہ اربعہ کے سوا دوسروں کی تقلید سے ممانعت فرمائی ہے۔
 علامہ شیخ احمد المعروف بہ ملا جیون صاحب تفسیرات احمدیہ میں فرماتے ہیں۔

قد وقع الاجماع على ان الاتباع إنما يجوز للاربع وكذا لا يجوز الا
 تبع لمن حدث مجتهداً مخالفاً لهم۔ (تفسیرات احمدیہ ص ۳۲۶)

اس پر اجماع ہو گیا کہ اتباع صرف ائمہ اربعہ ہی کی جائز ہے..... ان حضرات کے
 بعد میں پیدا ہونے والے ان کے مسلک کے مخالف مجتہد کی تقلید درست نہیں۔

انشاء اللہ یہ مختصر مباحث مسئلہ تقلید کی حقیقت سمجھنے میں منہمک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم
 سب لوگوں کو حق سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ آمین۔





نصیر بک ڈپو - حضرت نظام الدین ہی دہلی

Rs. 6/-